

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ أُمَّةً إِلَّا لِحُكْمِ اللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَعَنْهُمْ بِمَدِينَةِ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ
 وَمِنَ الْمُجَرَّبَاتِ وَجَمِيعِ تَلَمَذِهِ وَبَنَاتِهِمْ وَمَا دَخَلَ إِلَيْكَ اسْتِغْفَارُ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْكَافِي الْعَظِيمُ وَأَمَّا بَعْدُ

سَيِّدِنَا
 أَجْرُ الْبَرِّ صَادِقًا
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے سردار تمام جہان سے زیادہ جرات مند دُرُودِ سَلَامِ جَبَّارِ اللہ ہے

Sayyidunā
 AḤRA' - UN - NĀSI ṢADRAN صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 (Our Leader the Most Courageous
 of All Commanders صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

حضرت برابر بن عازب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سے
 روایت ہے کہ آن قبیلہ قیس کے
 کسی آدمی نے پوچھا کیا تم حنین کی
 جنگ میں حضور اقدس صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 کا ساتھ چھوڑ گئے تھے تو انہوں نے
 کہا کہ لیکن حضور اقدس صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 نہیں بھاگے۔ ایک دوسری روایت
 میں ہے کہ میں گواہ ہوں کہ حضور
 اقدس صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ میدان جنگ
 میں رہے اور ایک روایت میں ہے

عن البراء بن عازبٍ وسأله
 رجل من قيس افرتم عن
 رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم
 حنين فقال لكن رسول الله
 لم يفرو في رواية اما انا
 فاشهد على النبي انه
 لم يزل وفي احسرى
 لا والله ما ولي يوم
 حنين دبره -

(فتح الموهب اللدنية للزرقاتي ج ۲ ص ۱۶)

(فتح الباری ج ۲۸ ص ۲۸)
 کہ اللہ کی قسم آپ نے حنین کے دن
 کھار کو پیٹھ نہیں دکھائی۔

Ḥaḍrat Bara' bin 'Āzib رضی اللہ عنہ reported that someone from the Tribe of Qais asked him: "Have you run away from the Almighty Allāh's Prophet صلی اللہ علیہ وسلم on the Battlefield of Ḥunain?" He replied: "But the Almighty Allāh's Prophet صلی اللہ علیہ وسلم did not run away."

According to one narration he is reported to have said: "As for me, I bear witness that the Almighty Allāh's Prophet صلی اللہ علیہ وسلم stayed in the battlefield and did not desert."

In another narration he says: "I swear by Allāh the Almighty that His Prophet صلی اللہ علیہ وسلم did not run away at the Battlefield of Ḥunain."

-(Sharḥ Al-Mawāhib Al-Ladunīya by Al-Zarqāni V3, P16; Faṭḥ al-Bāri V8, P28)

وفیہ رکوب البغلة اشارة
 الی مزید الثبات (فتح الباری ج ۳ ص ۳۳)
 چرخ پر سوار ہونے میں حضور
 کے ثابت قدم ہونے کی طرف اشارہ ہے

His riding on a mule is an indication of his further steadfastness.

-(Faṭḥ Al-Bāri V8, P32)

